

## Lesson 5, 2017

A #	Juz # 1	سورة البقرة (2)	Ayats 17-20	S #
	English meaning	Urdu meaning	Arabic words	
17	Their example	مثال انکی	مَثَلُهُمْ	1
	(is) like	مانند، جیسے	كَ	2
	(of) who	وہ جو، جس نے	الَّذِي	3
	(he) lit	بھڑکائی	اسْتَوْقَدَ	4
	A fire	آگ	نَارًا	5
	Then what	پھر جب	فَلَمَّا	6
	(it) lighted	روشن کر دیا	أَضَاعَتْ	7
	Surrounded him	اردگرد اس کے	حَوْلَهُ	8
	(he) went	چھین لیا	ذَهَبَ	9
	With their Nur/ light	روشنی انکی، نورانکا	بِنُورِهِمْ	10
	(he) left them	چھوڑ دیا	تَرَكَ	11
	(many) darknesses	اندھیرے	ظُلُمَاتٍ	12
	(do) not they see	نہیں وہ دیکھتے	لَا يُبْصِرُونَ	13
18	(they are)(ones) deaf	بہرے	صُمٌّ	14
	(ones) dumb	گونگے	بُكْمٌ	15
	(ones) blind	اندھے	عُمًى	16
	They (will) return	نہیں لوٹیں گے	لَا يَرْجِعُونَ	17

19	Or A heavy rain	یا بارش	أَوْ صَيَّبِ	18 19
	The sky	آسمان (جمع)	السَّمَاءِ	20
	Thunder	گرج	رَعْدٌ	20
	Lightning	چمک بجلی کی	بَرْقٌ	21
	They make / put	وہ ٹھوس لیتے ہیں	يَجْعَلُونَ	22
	Their finger	انگیاں انکی	أَصَابِعَهُمْ	23
	Their ear	کان انکے	أُذَانِهِمْ	24
	The thunderbolts	کڑکی	الصَّوَاعِقِ	25
	(due to cation) fear	ڈر	حَذَرَ	26
	death	موت	الْمَوْتِ	27
	(is) one who always encircles	گھیرنے والا	مُحِيطٌ	28
	Those who disbeliever	کافر لوگ	الْكَافِرِينَ	29
20	(it) is near	قریب ہے	يَكَادُ	30
	(it) snatches take away	اچکی لے	يَخْطَفُ	31
	When ever	جب کبھی	كُلَّمَا	32
	They walked	چل پڑے	مَشَوْا	33
	It darkened	اندھیرا ہوا	أَظْلَمَ	34
	They stood	کھڑے ہوئے	قَامُوا	35

	If	اگر	لَوْ	36
	(he) willed	چاہتا	شَاءَ	37

	Upon	بر	كُلِّ	38
	(of) things	چیز	شَيْ	39
	(it) always powerful	قادر	قَدِيرٌ	40

Qurannation.com